

تجوید ٹپ - 13

✓ گہری سانس لیجیے! دماغ کو فل چارج کیجیے!!!

سانس ← آکسیجن ← خون ← دماغ

1: پہلے "پیٹ" سے سانس لیجیے۔ 2- اس کے بعد سینے کو بھرے

3- پھر سانس چھوڑیے، پہلے سینے سے

4- پھر تہہ پیٹ سے سانس لائیے اور تدریجاً اٹھو اور غلظت نکالنے کے صفات و قواعد پر۔

وَلَا أَنْتُمْ عِبْدُونَ مَا أَعْبُدُ (5)

و، ا	ع	ا، ع
ن چھپانا	دُو	د پر رکتے وقت قلقلہ
ع	ع	مَا مد منفصل

وَلَا أَنْتُمْ عِبْدُونَ

↑ مد ↑ ن چھپانا ↑ ع کو صاف پڑھیے ↑ مد

مَا أَعْبُدُ

↑ مد ↑ ع کو صاف پڑھیے

آو تجوید سیکھیں - آسان طریقے سے
برائے ویڈیو سبق-13b: پریکٹس سُورَةُ الْكَافِرُونَ 5-6

توجہ دیجیے پہلی لائن کے مخارج پر اور دوسری لائن کے صفات و قواعد پر۔

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ 6

		م	و	
تین طریقے	دی	دی		

لَكُمْ دِينُكُمْ



مد

وَلِي دِينِ



مد